





وَابْنُ الْمُنْذِرِ (خ) (نیل الاوطار ج ۲ ص ۴۰)

”حضرت عمر فاروق، عبداللہ بن عمر، حضرت انس رضی اللہ عنہم، حسن بصری، زہری، اوزاعی، احمد، اسحاق، ابو ثور، سعید بن مسیب، عروہ بن زبیر، محمد بن سیرین، عمر بن اکبری تکبیر کے قائل ہیں اور اکثر علمائے اسلام کا بھی یہی قول ہے۔

اکبری تکبیر کے کلمات اس طرح مروی ہیں :

اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے،

اشھدان لا الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں،

اشھدان محمد رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ آؤ نماز کی طرف۔

حی علی الفلاح آؤ نجات کی طرف

قد قامت الصلوة تحقیق نماز کھڑی ہو گئی

قد قامت الصلوة تحقیق نماز کھڑی ہو گئی

اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے

اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے

لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔

هذا ما عندي واللہ اعلم بالصواب

فتاویٰ محمدیہ

ج 1 ص 320

محدث فتویٰ